

۲۷

شبہ رات

از قلم

مولانا محمد عنایت رسول قادری
علیہ الرحمہ

پاشر

جعیت اشاعیر اہل سنت پاکستان

لیکن جلد کا عدی باراں اے اچھی ... ۴۰۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الصلوة والسلام عليك يا رسول الله ﷺ

نام کتاب	: شب تبرات
مصنف	: مولانا شاہ محمد عناویت رسول قادری علیہ الرحمہ
ضخامت	: ۳۲ صفحات
تعداد	: ۳۰۰۰
مفت سلسلہ اشاعت	: ۱۳۷

جمعیت اشاعت الہست پاکستان کی جانب سے شائع ہونے والی ۱۳۷ دین کتاب ہے جو کہ شب تبرات کے موضوع پر ایک بے مثال کتاب ہے اسید ہے یہ کتاب ہماری دیگر تابوں کی طرح قارئین کرام کے علمی و ذوقی پر پورا الترجی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کے مصنف علیہ الرحمہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بند سے بند تر فرمائے اور جیسی اس کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں سے عمل کر دانے کی توفیق دیں۔ آمين

جذبہ ناشر جذبہ

جمعیت اشاعت الہست پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار کراچی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْ وَالْكَيْتَبِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝
۝ فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ ۝

وسيلة النجات في

مسائل ایصال ثواب وفضائل شب برأت

مؤلف

واعظ شیریں ہیاں مداح سرور انس و جاں حاجی سنت حاجی بد عحت مولانا مولوی حافظ قاری الحاج
شاہ محمد عنایت رسول محمد عمر صاحب قبلہ قادری البر کاظمی الوارثی لکھنؤی بد تکہ العالی

خلف الرشید

حضرت شیر پیغمبر الہلسنت عالم بامعلم واعظ بے بد لمحافظ ناموس رسول ایو الوقت سیف اللہ
المسئول مولانا مولوی علامہ شاہ محمد ہدایت رسول صاحب قبلہ
 قادری البر کاظمی نوری لکھنؤی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

جمعیت اشاعت الہلسنت پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار کراچی -

ترجمہ :- پھر آسمان دنیا سے نجات حمایوں کی ضرورت کے مطابق حضور اکرم نور
بسم ﷺ پر نازل ہوتا ہے۔

شب برات کے کیا معنی ہیں؟

پیارے سن بھائیو اشب برات کے معنی ہیں رحمت اور خوش کی رات

شب برات کے کتنے نام ہیں؟

شب برات کے چار نام ہیں۔

(۱) لیلۃ المبارکۃ (۲) لیلۃ البراءۃ (۳) لیلۃ الرحمۃ (۴) لیلۃ الصک۔

(تفسیر جمل و صاوی و سراج منیر و غیرہ)

یعنی :- (۱) برکت والی رات (۲) نجات والی رات (۳) رحمت والی رات اور.....

(۴) خوش کی سند ملنے والی رات۔

شب برات میں کتنے گناہ گار مسلمان خشے جاتے ہیں؟

حضور اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں :-

ان الله ينزل ليلة الصف من شعبان الى سماء الدنيا

فيغفر لا كثرا من عدد شعر غنم بنى كلب

(رواہ الترمذی وائی ماچہ عن ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا)

ترجمہ :- بے شک اللہ تعالیٰ شب برات میں آسمان دنیا کی طرف جلوہ فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے زیادہ تعداد میں میری امت کی مغفرت فرماتا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم و علی الله و اصحابہ و ازواجہ و ذریاته و اہل بیته و اولیاء امته اجمعین

• حق تعالیٰ جل جلالہ اپنے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ :-

حَمْ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا

كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ ۝ (سورہ دخان پ ۲۶)

ترجمہ :- قسم ہے اس روشن کتاب کی بے شک نازل فرمایا ہم نے اس کو برکت والی رات میں بے شک ہم ذریتے والے ہیں اس (رات) میں تقسیم کر دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔

حضرت عکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جماعت کا قول ہے کہ قرآن عظیم میں جس رات کو لیلۃ المبارکۃ فرمایا گیا ہے وہ شعبان کے میہنہ کی پندرہویں شب ہے۔ اس مبارک رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف قرآن پاک نازل ہوا۔

کشف، تفسیر کبیر، تفسیر سراج منیر، تفسیر جمل، تفسیر صاوی، تفسیر ابوالمسعود و روح البیان وغیرہ میں اس آیت مقدسہ کے تحت میں ہے۔ جلالین شریف کی عبارت یہ ہے۔

نزل فيها من ام الكتاب من السماء السابعة الى سماء الدنيا

ترجمہ :- یعنی اسی (شب برات) میں قرآن پاک تمام و کمال لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ اور جمل کی عبارت یہ ہے۔

ای جملہ من ام الكتاب ای اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا . الخ

شب برات میں کون کون لوگ نہیں نخشے جاتے؟

2

حدیث شریف :-

سرکار عالم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں :-

ان الله تعالى يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا الكاهن و الساحر و مد من الخمر و عاق الوالديه و مصر على الزنا.

(تفسیر کیر و سراج و جمل و کشاف و صاوی وغیرہ)

ترجمہ :- بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں سب مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے مگر کاہن اور جادوگر اور ہمیشہ کا شرائی اور ماں باپ کا نافرمان (عاق کرودہ) اور حرام کاری پر مصر یعنی زنا کرنے کا عادی۔

دوسری حدیثوں میں ہے کہ سود خور اور فخر کے ساتھ پاجامہ یا تہند ٹکنوں سے نیچ تک پہننے والا اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرانے والا اور جس مسلمان پر کسی دوسرے مسلمان کا کچھ ہن ہے اور اس نے حق دار سے معافی نہیں مانگ لی ہے ان لوگوں کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں کی جاتی۔

آسمانی آواز میں "مانگ کیا مانگتا ہے"

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ :-

اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها و صوموا نهارها فانها ليلة مباركة فان الله تعالى يقول الا من مستغفر فاغفر له الا مبتلى فاعفية الا من

مسترزق فارزقه الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر

(تفسیر مذکور)

ترجمہ :- جب شب برات آئے تو اس میں نفلیں پڑھوا اور پندرہ کے دن کو روزہ رکھو بے شک وہ برکت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں ارشاد فرماتا ہے کون ہے مغفرت مانگنے والا میں اس کو خوش دوں، کون بھار ہے، عافیت مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کون ہے روزی مانگنے والا، میں اس کو دوں۔ اور کون کیا مانگنے والا ہے، جو چاہے مانگنے میں اس کو عنایت فرماؤ۔ یہ ندا میں صحیح تک ہوتی رہتی ہیں اور فیض و کرم کا دیریا جاری رہتا ہے۔

قریب قریب اسی مضمون کی ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان ماجہ میں ہے۔

اس رات قسمتوں کا فیصلہ ہوتا ہے

لام بیہقی نے دعوات کیр میں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا :-

فقال فيها ان يكتب كل مولود بنى ادم في هذه السنة وفيها ان يكتب كل هالك عن بنى ادم في هذه السنة وفيها ترفع اعمالهم وفيها ترزق ارزاقهم

ترجمہ :- اس رات میں پورے سال میں پیدا ہونے والے لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے سال بھر میں ہلاک ہونے والے ہیں وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں اور اسی شب برات میں ان کے اعمال بند کیے جاتے ہیں اور اسی شب برات میں ان کے رزق اُتارے جاتے ہیں۔

غافل انسان خوشی منار ہے اور موت کا حکم ہو چکا ہے

امام مجی السنتہ بنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ "حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات یعنی شب بُرَأَت میں شعبان سے شعبان تک تمام معاملات عالم کے دفتر، فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے۔ اس کے گھرچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی خوشی مناتا ہے۔ مکان یو اتا ہے حالانکہ اس کا نام مردوں کے رجسٹر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے"۔

روزی روزگار میں برکت

حدیث شریف میں آیا ہے کہ "جو شخص شب بُرَأَت میں کھانا کپڑا یا نقد جو ہو سکے خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز میں برکت دے گا اور اس کی روزی کشادہ فرمائے گا"۔

دوزخ سے پچنا ہے تو شب بُرَأَت جگاؤ

حدیث شریف میں آیا ہے کہ "جو شخص دوزخ سے ملان چاہے وہ شب بُرَأَت میں اللہ تعالیٰ کی عبادات کرے"۔

مرنے کے بعد زندگی چاہتے ہو تو شب بُرَأَت کو زندہ رکھو
حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ "جو شخص شب بُرَأَت کو زندہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد زندہ رکھے گا"۔

گناہوں کی مخفیش اور انعام میں حوریں

مقابل الجہان میں ہے کہ "جو شخص شعبان کی چودہ تاریخ غروب آفتاب سے پہلے

چالیس مرتبہ لا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اور سوار درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چالیس برس کے گناہ مخفی دے گا۔ اور چالیس حوریں جنت میں اس کی خدمت کو مقرر کرے گا۔" (سبحان اللہ)

دور کعت کا ثواب چار سو سے زیادہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کیا دیکھا

روغ الانفار میں ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علی مینا علیہ السلام ایک پہاڑ کی سیر فرمادی ہے تھے کہ ایک نمایت صاف و شفاف سُدُول چنان نظر آئی۔ آپ وہاں ٹھہر کر دیر تک اس کو بغور دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ "اے عیسیٰ کیا یہ تم کو بہت پسند ہے"۔ عرض کیا کہ "ہاں"، ارشاد ہوا کہ "اس کے اندر کی چیز بھی دیکھو گے"، عرض کیا کہ "ضرور"، یہ وہ چنان بیبع سے شق ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ چنان کے اندر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کے قریب پانی کا ایک صاف چشمہ جاری ہے اور ایک طرف انگور کی نیلی ہے اور اس میں تروتازہ خوشنے لگے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ نے اس سے سلام کیا اور مصافحہ کیا۔ (دیکھو مسلمان بھائیو! نماز کے بعد مصافحہ کا طریقہ کب سے جاری ہے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ "تم کون ہو"، ان بورگ نے جواب دیا کہ "موس علیہ السلام کی امت کا ایک شخص ہوں، میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھ کو عبادات کے لیے سب سے الگ ایک جگہ عطا فرم۔ چنانچہ اس نے یہ تھائی کی جگہ مجھ کو عنایت فرمائی ہے۔ یہاں مجھ کو نہ آب دانہ کی فکر ہے، نہ یہی یہوں کا خیال ہے، نہ یار دوستوں کی صحبت میں وقت بر باد ہوتا ہے۔ چار سو برس سے اسی پہاڑ میں رہتا ہوں۔ ہمیشہ روزے رکھتا ہوں اور اطمینان سے اپنے رب کی عبادات کرتا ہوں"۔

عیسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور عرض کیا کہ "یا اللہ! اس سے بڑھ کر کون عابد ہو گا اور کس نے ثواب جمع کیا ہو گا؟"۔ ارشاد باری ہوا کہ اے عیسیٰ!

من صلی لیلۃ النصف من شعبان امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین فہو افضل من عبادته اربع مائے سنۃ ترجمہ:- جو شخص میرے حبیب کا امتی شب برأت میں دو رکعتیں پڑھے گا وہ اس کی چار سورس کی عبادت سے بہتر ہو گا۔ اور اس سے زیادہ ثواب پائے گا۔ (سبحان اللہ و محمد)

ماہ شعبان کی فضیلت

اسی مہینہ میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے

امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خطب میں فرماتے ہیں کہ "اسی مہینہ میں مجزہ شتن القرکا وقوع ہو۔ یعنی آپ کی انگلی کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔"

دنیا میں روزی زیادہ ہو

اور قیامت میں جنتی او نہنی کی سواری ملے

یہی علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "جو مسلمان اس مہینے میں تین روزے رکھے اور اظہار کے وقت مجھ پر تین بار درود شریف پڑھے گا۔ اس کے گناہ خش دیے جائیں گے۔ اس کی روزی میں برکت ہو گی اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو جنتی او نہنی پر سوار کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔" (سبحان اللہ)

حضر اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ شعبان میں بہتر روزے رکھتے تھے حدیث شریف میں آیا ہے کہ "حضر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور میں میں اتنے روزے نہ رکھتے تھے جتنے شعبان میں"۔ (رواہ البخاری والمسلم)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سوال
اور حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کا جواب

ماہ شعبان میں روزہ کی فضیلت

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک بار حضور ﷺ سے دریافت کیا کہ "سر کار! اس ماہ مبارک میں بہت روزے رکھتے ہیں۔" فرمایا کہ "ہا۔"

ذاک شهر بین رجب و رمضان یغفر الناس و فيه اعمال العبد الى رب فاحب ان یرفع عملی و انا صائم ۵

یعنی:- یہ شعبان کا مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان کا۔ اس میں لوگ بخشنے جاتے ہیں۔ اس میں بندوں کے اعمال خداوند تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ "میں نے حضور ﷺ کو دو میئے مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ سوائے شعبان اور رمضان۔" (رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی والین ماجہ)

رمضان شریف کے لیے تیاری کرو شعبان کا مہینہ کس کا ہے؟

حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ "شعبان کا مہینہ آئے تو اپنے نفوں کو رمضان المبارک کے لیے (گناہوں سے) پاک کرو۔ اپنی نیتوں کو درست کرو۔ یاد رکھو کہ شعبان کی بزرگی ایسی ہے جیسی میری بزرگی اور عظمت تم لوگوں پر۔ خبردار ہو جاؤ۔ یہ مبارک مہینہ میرا میہنہ ہے جس نے اس میہنے میں ایک روزہ بھی رکھ لیا۔ اس کو میری شفاعت حلال ہو گئی۔" (سبحان اللہ)

کون سا مہینہ کس کا ہے؟

حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں :-

رجب شہر اللہ و شعبان شهری و رمضان شہر امتی
یعنی :- رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان شریف
میری امت کا مہینہ ہے۔

پندرہویں شعبان کو روزہ رکھو

حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ :-

من صام يوم الخامس عشر من شعبان لم تمسه النار
یعنی :- جو شخص شعبان کی پندرہ تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جنم کی آگ نہ
چھوئے گی۔ (سبحان اللہ)

مسلمانو! کیا کیا مریانیاں فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر اور غور کرو تو یہ

سب صدقہ اور طفیل ہے سرکار عالم نور مجسم شفیع امام علیہ السلام کا۔ ذرا درود شریف پڑھو حضور
علیہ السلام پر :-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

شب براءات میں قبروں پر جانا سنت ہے

صحیح روایات سے ثابت ہے کہ "شب براءات میں حضور اکرم ﷺ جنت البقع تشریف لے گئے ہیں اور آپ نے اہل قبور کے لیے دعا کیں فرمائی ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سفت رسول ﷺ کی نیت سے آج کی رات قبرستانوں میں جائیں۔ ایصالِ ثواب کریں اور عبرت حاصل کریں۔ خدا سے ڈریں، اپنے اعمال سیدھے سے توبہ کریں اور غور کریں کہ کیسے کیسے لوگ خاک میں مدفن ہیں ایک دن اپنا بھی یہی حال ہو گا۔"

قبرستان جانے کے آداب

حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب قبرستان جاؤ تو اہل قبور کو سلام علیکم کووکہ :-
السلام علیکم یا اہل القبور و انا ان شاء اللہ بکم لا حقوون ۵

قبرستان میں جاؤ تو کیا پڑھو؟

حضرت علی شیر خدار حضرت اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضور اکرم ﷺ نے کہ :-
من مر على المقابر فقراء قل هو الله احد احدی عشرة مررة ثم ذهب ثوابه
للاموات اعطي من الاجر بعد الاموات
(رواہ الدارقطنی)

یعنی:- جو شخص قبرستان میں جائے اور گیارہ بار قل حوالہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو نہیں تو اس پڑھنے والے کو ان مردوں کی تعداد کے برابر اجر و ثواب حاصل ہوگا۔
 سبحان اللہ! حضور ﷺ نے کیسے کیسے پیداے انداز میں قبروں پر جانے اور ایصالِ ثواب کی ترغیب دی ہے۔

قبروں سے تکریہ نہ لگاؤ

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ نے قبر سے تکریہ لگائے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا:-
یا صاحب القبر توذی صاحب القبر و لا یؤذیك
(اوکما قال)

یعنی:- اے قبر سے تکریہ لگانے والے تو قبر والے کو اذیت نہ دے اور وہ تجھ کو اذیت نہ دے۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ قبر مسلم کی توہین سے صاحب قبر کو تکلیف ہوتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے جب ہی تو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر وہ میت اس ایذا دینے والے کو تکلیف دیتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ تو عام مسلمان مردوں کا تصرف ہے تو اولیاء اللہ کی عظمت و شان اور ان کے تصرفات کا کیا کہنا۔

قبروں پر پھول چڑھانا

شرح برزنخ میں یہ حدیث شریف منقول ہے کہ :-

روى من القى الورد على قبر مسلم غفر الله تعالى بتسبيحه للموتى و

یکب للملقی حسنة

(ذوققدر حیدریہ ص ۲۶)

جو شخص کسی مسلمان کی قبر پر پھول ڈالے ہجئے۔ اللہ تعالیٰ پھول کی تسبیح کی برکت سے میت کو اور پھول ڈالنے والے کے لیے لکھتا ہے، نیکی۔ اس حدیث کو ان ان الدنیا و جامع الخالل نے ان مسعود سے مند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

حضرت ﷺ نے خود و قبروں پر سبز شاخ چڑھائی

مکملۃ شریف میں سیدنا ان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ گذرے حضور ﷺ و قبروں پر اور فرمایا شفیق الدین بنی ﷺ نے کہ یہ دونوں دردناک عذاب میں بتلا ہیں ایک ان میں سے پیشاب سے پاک نہ رہتا تھا اور دوسرا چغل نخروں کی صحبت میں بتھتا تھا پھر حضور ﷺ نے ایک سبز شاخ لی اور اس کو بیچ سے دو ٹکڑے کر کے آدمی آدمی دونوں قبروں پر چڑھا دی۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ "جب تک یہ شاخ ترو تازہ ہے ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔" اسی وجہ سے آج تک قبر پر سبز شاخ رکھنے کی رسم جاری ہے۔ اللہ! اللہ! انسینوں کے وہاں کی جوبات ہے وہ وسیلہ نجات ہے۔ اس حدیث شریف سے حضور کے بھٹائے الی علم غیب کی شان کا اخبار ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ ان قبروں میں کون کون دفن ہیں اور زندگی میں ان کے عمل کیسے تھے اور کس طرح ان کے عذاب میں کی ہو سکتی ہے۔

مسلمانوں ایہ ہیں سنیوں کے وہاں کے طریقے۔ یاد رکھنی مذہب میں مسلمانوں کی قبروں کو بت نہیں کہتے ہیں ورنہ وہاں جا کر سلام کیوں کریں۔ کیامت خانہ کی طرف سے گذرے پر بھی سلام کہتے کا حکم ہے۔ سنیوں کے وہاں قبروں کی بے حرمتی سے معن کیا گیا ہے۔ سنیوں کے وہاں قبروں کا نشان قائم رکھنے کا جواز ہے۔

حضرور ﷺ نے خود قبر کا نشان قائم فرمایا

حدیث شریف میں ہے کہ جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کو دفن کیا گیا تو حضور ﷺ نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ "وہ پھر جو پڑا ہے، اٹھالا و"۔ انہوں نے اٹھانا چاہا مگر ان سے اٹھنے سکا۔ سید عالم ﷺ نے آستینیں چڑھا کر اس پھر کو اٹھا کر حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کے سرپر نصب کر کے ارشاد فرمایا کہ "میں نے اس پھر سے اپنے بھائی کی قبر کا نشان قائم کر دیا، اب جو میرے اہل بیت سے وفات کرے گا اسے میں یہاں دفن کروں گا۔ لیکن مسلمانوں کی طریقہ ہے سنیوں کے یہاں کا۔"

قبروں پر روشنی کرنا

اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس برکت والی رات میں بغرض ایصال ثواب یہاں آتے ہیں ان کو آرام ملے اکثر قبریں اور پنجی پنجی ٹوٹی پھوٹی ہر قسم کی ہوتی ہیں اور شریعت مطہرہ میں ان کے احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا کوئی ان پر سے نہ گزرے نہ کسی زندہ کو تکلیف ہونہ مروءے کو۔ آنے والوں کے لیے پانی وغیرہ کی سبلیں بھی رکھتے ہیں اور بھی ان کی ضرورت کی چیزیں تابہ امکان میبا کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ سب نیک اور ثواب کے کام ہیں خود کرنے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے اور اگر نیت ایصالِ ثواب کی ہے تو ان کے مرحومین و مدفونین کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے۔

دروود، فاتحہ، ایصالِ ثواب

کس کس رات کو رو حیں گھر پر آتی ہیں؟

حدیث شریف شریف :-

حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ :-
اذا كان يوم العيد و يوم العشر و يوم الجمعة الاولى من شهر رجب و ليلة النصف من شعبان و ليلة الجمعة يخرج الاموات من قبورهم ويقفون على ابواب بيوتهم ويقولون ترحموا علينا في هذه الليلة بصدقه ولو بلقمة من خبز فانا محتاجون اليها فان لم يجدوا شيئاً يرجعون الحسرة.

یعنی :- جب عید کارن ہوتا ہے یا روز عاشوراء (یعنی محرم کی دسویں) یا رجب کا پہلا جمعہ یا شب براءت یا ہر جمعہ کی رات کو مردے اپنی قبر سے نکلتے ہیں (یعنی ان کی رو حیں) اور اپنے گھروں کے دروازوں پر وہ رو حیں جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے گھر والو! ہمارے اوپر رحم کرو۔ آج کی رات میں ہمارے لیے کچھ صدقہ کرو چاہے ایک ہی نوالہ روٹی کا ہو کیونکہ ہم صدقہ خیر، خیرات، فاتحہ، درود و ایصالِ ثواب کے محتاج ہیں اگر وہ رو حیں کچھ نہیں پاتیں یعنی گھر والے فاتحہ و درود غیرہ کچھ نہیں کرتے تو وہ رو حیں حسرت و نامیدی کے ساتھ واپس جاتی ہیں۔

دوسری حدیث شریف :-

عن انس رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا نتصدق عن موتنا و نحاج عنهم و ندعوا لهم فهل يصل ذلك لهم قال نعم انه ليصل اليهم و اللهم يلفرحون به كما يفرح احدكم بالطريق اذا اهدى اليه.
(رواہ ابوالحنفہ العکبری، شامی جلد نمبر ۱۲)

یعنی:- حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے عرض کیا "یار رسول اللہ ﷺ ہم اپنے مردوں کے لیے صدقہ کرتے اور خیرات دیتے (یعنی فاتحہ کرتے ہیں) اور ان کی طرف سے حج کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں تو کیا یہ انھیں یہو نچتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ "ہاں ضرور انھیں یہو نچتا ہے اور یقیناً اس کے پیو نچتے سے انھیں ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے جیسے تم میں سے کسی ایک کو ایک طلاق ہدیہ ملنے پر خوشی حاصل ہوتی ہے"۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم السلام جمیعن میں بھی مردوں کے لیے ایصالِ ثواب کرنے کا رواج تھا اور وہ حضرات اس کو جائز جانتے تھے ورنہ کیوں کرتے۔ ہاں ابو جمل، ابو ابہ اور کفار و مشرکین کے لیے ان میں ایصالِ ثواب کا طریقہ جیسا کہ الہ ایمان کے وہاں ہے ثابت نہیں۔ ان کے لیے تو یہ مقولہ صحیح ہے "مرگیا مرد و دنہ فاتحہ نہ درود" اب رہا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم السلام کا سوال کرنا۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ یقین کا درجہ اور زیادہ سے زیادہ ہو۔ حضور ﷺ کی زبان مبارک سے سنیں کہ ہمارے صدقے، خیر، خیرات، ہماری دعائیں، درود و فاتحہ وغیرہ ہمارے مردوں کو یہو نچتی ہیں یا نہیں۔ کیونکہ اس کا تعلق عالم غیب سے تھا اور صحابہ جانتے تھے کہ غیب کی بات تو حکم الہی حضور ہی بتا سکتے ہیں۔ نیز اس لیے دریافت کیا کہ اس سےطمینان قلب کے ساتھ ہی ساتھ بعد والوں کے لیے ایک مند ہو گی اور آئندہ جو مخالفین اس کو ناجائز وغیرہ کہیں گے۔ ان کے لیے وندان شکن جواب ہو گا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حج تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ہم سنیوں پر بڑا احسان ہے اور اسی لیے مخالفین ان کو گالیاں دیتے اور کھلوانے کی تدبیریں کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ صحابہ کرام نے تمام بندہ ہبوں کی بندہ بیت کو پاش پاٹ کر دیا ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ "عبادت بد فی جیسے حج وغیرہ اور عبادت مالی

جیسے کھانا کھلانا، کپڑا دینا یا کوئی چیز مردے کو ثواب یہو نچانے کی غرض سے دینا دنوں طریقے جائز اور ثابت ہیں خواہ ایک ساتھ ہوں یا الگ الگ"۔

حضرت جبرئیل علیہ السلام فاتحہ کی چیز

مردے کو یہو نچاتے ہیں

تیری حدیث شریف :-

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس گھروں میں سے کوئی مر جاتا ہے اور وہ لوگ اس کے بعد صدقہ فاتحہ ایصالِ ثواب کرتے ہیں تو جبرئیل علیہ السلام اسے طلاق میں لے جا کر اس میت کو بدیر دیتے ہیں اور اس کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں

یا صاحب القبر العمیق هذه هدیۃ اهداها الیک فاقبلاها فیدخل عليه فی فرح
بها ولیست بشر و يحزن جیرانه الذین لا یهدی الیهم شیء

(رواہ الطبرانی فی الادسط)

یعنی:- اے گھری قبر والے یہ ہدیہ تیرے گھروں نے بھجا ہے اس کو قبول کر پھر اندر جاتے ہیں تو قبر والوں سے خوش ہوتا ہے اور فرحت کا اظہار کرتا ہے اور اس کے پڑوی قبر والے جن کو کچھ نہیں خشائیا، ہدیہ نہیں یہو نچاوہ غمگین ہوتے ہیں۔

خود حضور ﷺ نے ایصالِ ثواب کیا

چوتھی حدیث شریف :-

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ "میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے کیا صدقہ ایصالِ ثواب کروں۔" فرمایا "الماء" یعنی پانی۔ چنانچہ حضرت سعد نے کنوں کھدا دیا۔ جب تیار ہو گیا تو حضور ﷺ تشریف لائے اور کنوں کے کنارے کھڑے ہو کر دعا فرمائی۔

"هذه لام سعد" "بار الہ! اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہونچے"

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کا ثواب حخشنا ہو اس کا سامنے ہونا اولیٰ تر ہے ورنہ حضور ﷺ اپنے مگر ہی سے یا جہاں تھے وہیں سے ثواب حخش دیتے۔ وسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی چیز کا ثواب حخشوانے کے لیے اگرچہ خود بھی اس کام کو کر سکتا ہو مگر کسی بزرگ ہستی کو بلا ناستی صاحب ہے تیرے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ کنوں اسی نیت سے کھدا دیا گیا تھا مگر حضور ﷺ کو بلا کرد عما کرنا یہ چیز تو تو ز علی فور ہو گی۔ پس اگر کوئی شخص کھانا وغیرہ ایصالِ ثواب ہی کی نیت سے پکوئے مگر پھر بھی اس پر فاتحہ کرائے جو بڑی کامل دعا ہے سدتِ صاحب ہے اور نہایت ہی افضل و اولیٰ طریقہ ہے۔ ورنہ حضور ﷺ فرمادیتے کہ جب تم نے اسی نیت سے کھدا دیا ہے تو پھر اب دعا کرنا کیا ضروری ہے میں اس کا ثواب تمداری ماں کو پہونچ گیا۔ چوتھے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کھانے پینے کی چیز کا ثواب حخشنا ہو تو یہ ضروری نہیں کہ پہلے اسے کھلا پا دیا جائے جیسا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک کھانا کسی کو کھلانے دیا جائے اور وہ پیٹ میں پہونچ کر غلیظ نہ ہو جائے اس وقت تک خود کھلانے والے کو اس کا ثواب نہیں ملتا پھر کسی کو حخشنا کی سبلجھ معلوم ہوا کہ ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے ورنہ کنوں بننے کے بعد اس کا سارا اپنی نکال کر اور سب پیاسوں کو پلا کر اس کا ثواب حخشنا جاتا مگر ایسا نہیں کیا گیا بلکہ قبل پلانے ہی کے تمام پانی جو موجود تھا اور آئندہ موجود ہونے والا تھا سب کا ثواب پہلے ہی سے حخش دیا گیا۔

یہ طریقہ مسلمانوں کے یہاں اب تک جاری ہے مگر بد مذہب اس سے عاری ہے اور یہ چیز اس پر بھاری ہے۔ پانچوں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایصالِ ثواب کی چیز کو ہر ضرورت مندرجہ کھانی سکتا ہے۔ کسی امیر و غریب پر منحصر نہیں ورنہ میت کے نام کے صدقہ کا کنوں تھا۔ اس کا پانی صرف مسائیں کو پینے کا حکم ہوتا۔ مالداروں کے لیے ناجائز ہوتا۔ اور بھی الحمد للہ اس حدیث مبارک سے بخشنہ مسائل حل ہوتے ہیں لیکن خیال طوال ترک کیے جاتے ہیں۔

ڈگنا ثواب حاصل کیجئے

پانچوں حدیث شریف :-

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا سرور عالم ﷺ نے :-
اذا تصدق احدكم بصدقه تطوعاً فليجعلها عن أبيوه فيكون لهما اجرها و
لا ينقص من اجره شيء

(رواہ الطبرانی والبیہقی فی شعب الایمان)

یعنی :- جب تم میں کوئی نظری صدقہ کرے تو اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو حخش دے تو اس کا اجر اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا اور اس کے اجر میں کوئی کمی بھی نہ ہو گی۔

سبحان اللہ! کن کن طریقوں سے حضور ﷺ نے ایصالِ ثواب فاتحہ و درود اور خیر خیرات کی ترغیب دی ہے۔ مگرچہ تو یہ ہے کہ سب سنیوں کے لیے ہے۔ بد مذہب نہ زندگی میں اس قسم کے کار خیر کرتے ہیں نہ مرنے کے بعد ان کی اولادیں ان کے لیے کچھ کرتی ہیں اور وہی مثل لوگوں کی صادق آئی ہے کہ "مر گیا مر دو دنہ فاتحہ و درود۔"

شب بَرَأَتْ كَاحلُوا

یہ مسلمان حلوا کیوں بناتے ہیں؟

بات یہ ہے کہ وہاں مذہب کے پیشوامولوی اسما عیل دہلوی نے اپنی کتاب تذکیر الاخوان کے صفحہ نمبر ۶۶ مطبوعہ فخر الطابع لمحتوی میں صاف لکھ دیا ہے کہ "شعبان میں حلوا پکانا کفر و نفاق ہے"۔ (ماخوذ از کتاب فضائل شب بَرَأَتْ، مصنفہ مولانا محبوب علی صاحب صفحہ ۶۳) اور اس کو بدعت وغیرہ اور بڑے گندے کاموں کے ساتھ میں شمار کیا ہے۔ اس وجہ سے اس کے ہم مذہب اس کو حرام، ناجائز اور خدا جانے کیا کہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ مسلمان جو بے چارے سنی اور وہاں عقائد میں فرق نہیں جانتے وہ ان کے چکر میں آکر اس قسم کی طیب اور پاک چیزوں کو خواہ مخواہ کسی دن اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ لیکن سنی مسلمان اس لیے آج کے دن حلوا پکواتے اور اپنے متعلقین اور دوست و احباب، اعزاء و اقرباء کو کھلاتے ہیں کہ یہ سال کا آخری دن ہے۔ اس دن وہ چیز اللہ رسول کی خوشودی کے لیے کھلانا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ کے پیارے جبیب نے پسند فرمایا ہو۔ چنانچہ ان کو حدیث شریف میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ :

کان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحب الحلو و العسل

(رواہ البخاری)

یعنی:- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلوا اور شد پسند فرماتے تھے یا میٹھی چیزوں اور شد مرغوب رکھتے تھے۔

یہ دیکھ کر اللہ کے ان مقبول بندوں نے اس مبارک رات میں حلوا کھانا اور کھلانا اختیار کیا اور سلف صالحین اور بزرگان وین کا اب تک اس پر عمل در آمد رہا۔ مگر اب چند روز

سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ لوگ اس کو ضروری سمجھنے لگے ہیں۔ اس وجہ سے خصوصیت سے شب بَرَأَتْ کے دن حرام ہے اور باقی سال میں ہر روز حلال ہے۔ افسوس صد افسوس کہ وہی چیز ہر روز حلال رہے مگر اس برکت والے روز اور برکت والی رات میں حرام ہو جائے (معاذ اللہ) حالانکہ یہی منع کرنے والے ہر روز ہزاروں چیزوں اور ہزاروں کاموں کو ضروری سمجھتے ہیں خواہ وہ دین کے ہوں یا نیا کے۔

پیارے سنی بھائیو! اگر اس خطرہ سے کہ شب بَرَأَتْ کے روز لوگ اس کو ضروری نہ سمجھ لیں۔ صرف ایک دن یہ حلوا ناجائز یا حرام یا کفر و شرک یا بدعت ہو جاتا ہے تو اس خطرے سے کہ کہیں ایک دن اس کو لوگ حرام نہ سمجھ لیں۔ اس لیے اس کا کہنا ضروری اور باعثِ ثواب بھی ہو جاتا ہے۔

کیونکہ حلال چیز کو ضروری سمجھ لینا انتہا نہیں اس لیے کہ وہ تو حلال ہی ہے مگر حلال چیز کو کسی دن حرام سمجھ لینا اور جاہلوں کی سمجھ میں یہ غلط بات آجانا یہ تو سخت گناہ ہے۔ لہذا جس چیز کو اللہ اور رسول اللہ ﷺ نے کسی دن حرام اور ناجائز نہ فرمایا ہو اس جائز چیز کو ہرگز حرام نہ سمجھنا چاہیے۔ پھر خیال سمجھ کر وہابیوں کے وہاں کو احلاں ہے جو سنیوں کے وہاں حرام ہے وہابیوں نے یہ سمجھا کہ سنیوں کی دیکھادیکھی ایسا نہ ہو کہ ہماری پارٹی بھی اس کو حرام سمجھنے لگے۔ اس لیے انہوں نے اپنے مولوی صاحب رشید احمد گنگوہی سے فتویٰ لیا کہ "جس جگہ زانع معروف کو اکثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو برا کہتے ہوں تو ایسی جگہ اس کو کھانے والے کو ثواب ہو گا، یا نہ ثواب ہو گا نہ عذاب" تو اس کا جواب مولوی صاحب نے لکھا کہ "ثواب ہو گا"۔ جس کا جی چاہے فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۴۲ حصہ دوم مطبوعہ قاسمی پر لس دیوبند دیکھ لے۔

ایک صورت میں جہاں وہاں لوگ شب بَرَأَتْ کے روز حلوا کھانا کھلانا حرام جانتے ہوں وہاں اس خیال سے کہ سنی بھی کہیں ان کے ہمومن کر حلال کو حرام نہ سمجھنے لگیں۔ شب

برأت کے روز حلوا کھانا، کھلنا اور پکانا کیوں نکر ثواب نہ ہو گا۔ ہو گا اور ضرور ہو گا۔

شب برأت میں شبینے

اور میلاد شریف کی محفلیں

پیدا ہے بھائیو! عام طور پر اس رات میں اہل سنت و جماعت میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی نہایت مبارک اور مخصوص اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے کیونکہ مختلف قسم کے اجتماعات اور سیرت کے جلسے ہرمذہب کے لوگ کرتے ہیں۔ قادریانی، وہابی، رافضی، خارجی سب سیرت کے نام سے اجتماع کرتے ہیں اور سیرت پر تقریریں کرتے ہیں حتیٰ کہ غیر مسلم بھی حضور ﷺ کی سیرت پر تقریریں کرتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں۔ مگر محفل میلاد شریف صرف ایسی چیز ہے جو صرف سنی مذہب کے لوگ ہی کرتے ہیں۔ اور مخصوص سنیوں کے وہاں کی چیز ہے۔ یہ محفل ایسی جامع ہے کہ اس میں آنے والا تھوڑے وقت میں ہزاروں نیکیاں حاصل کر سکتا ہے۔

یہ وہ محفل ہے جس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، توعذ بھی ہے، قیام بھی ہے، تقسیم بھی ہے، عبادت مالی بھی ہے، تعظیم و توقیر کے جلوے بھی ہیں، خداکاذر بھی ہے، خدا کے رسول ﷺ کا ذکر بھی ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم السلام بھی ذکر ہے، اولیاء اللہ کا بھی ذکر ہے، نماز، روزہ کا بھی ذکر ہے اور کیوں نہ ہو یہ اس کے پیدائش کی محفل ہے جس کی پیدائش اور جس کے میلاد کے صدقے سے ساری کائنات پیدا ہوئی۔ اگر آپ نہ پیدا ہوتے یعنی آپ کا میلاد نہ ہوتا تو بھی کچھ نہ ہوتا۔ نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورت نہ ملک نہ بحر نہ نماز نہ حج نہ کوئی۔ یہ ساری چیزیں حضور ﷺ کے میلاد ہی کے صدقہ میں پیدا ہوئیں۔ نقیر نے عرض کیا ہے کہ:-

یہ قرآن ہے میلاد احمد کا حصہ
نمایز میں ہیں معراج احمد کا صدقہ
منور ہے نور محمد سے کعبہ
زمین ہے نام محمد سے کلمہ
محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا

شب برأت میں آتش بازی برکت کی رات میں بربادی

پیدا ہے مسلمانو! یہ ہے وہ برکت والی رات اور سال کا آخری دن جس کے فضائل قرآن پاک اور احادیث مقدسہ میں نظر آرہے ہیں لیکن افسوس! صد افسوس! کہ اس برکت والی رات میں جب کہ خداوند کریم خاص آسمان دنیا پر جگلی فرمائے۔ ہماری موت اور زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ ہمارے اعمال نے کھلے ہوئے ہیں۔ رحمت حق ہم کو اپنی آنکوش میں لینے کو تیار ہے تو اسی رات میں ہمارے اکثر بھائی نہ صرف اپنی دنیاوی دولت میں آگ لگا کر گھر پھونک کر تماشہ دیکھ رہے ہیں اور یہ مصیبت اب گھروں تک محدود نہیں۔ بلکہ راستوں میں بھی اور حدیہ ہے کہ قبرستانوں میں بھی اس کا لارٹاکب عام طور پر ہو رہا ہے۔ اہل ایمان جو محض ایصالِ ثواب کے لیے جاتے ہیں۔ ان کو بھی فاتحہ پڑھنا و شوار ہو جاتا ہے۔

ہے افسوس میرے عزیزو! کاش یہ تمداری جوانی اور جوانی کی قوت دین کے لیے ہوتی تم خدا اور رسول ﷺ کے خلاف یہ آگ برسانے والوں کو روکنے والوں میں ہوتے۔ تم قبرستانوں میں جاتے اور اپنی موت کو یاد کرتے اور یہ دیکھ کر عبرت حاصل کرتے کہ کیسے کیسے جوان، پچھے بیٹھے، مال اور عزت والے خاک میں دفن ہو گئے۔ اسی طرح ہم کو بھی ایک دن پامال ہونا ہے۔ مگر اس کے بر عکس ہم دیکھتے ہیں کہ تم وہاں جا کر کھیل کوڈ میں مصروف ہو جاتے ہو اور وہاں بھی آتش بازی چھڑاتے ہو نہ زندوں کو چین لینے دیتے ہو نہ مردوں کو۔

افسوس کیا تم نے بالکل اسلام سے منہ موڑ لیا۔ کیا قرآن پاک کی اب یہ آیت تمہارے سامنے نہیں۔ **إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ** ترجمہ: یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیا تم اس برکت والی رات میں شیطان کے بھائی بننے کا فخر حاصل کرنا چاہتے ہو (معاذ اللہ) تو بہ کرو، آج ہی تو بہ کرو۔ اٹھوا اور جماعت بناؤ اور اس آگ میں گرنے والے دوسرے بھائیوں اور پھوپھوں کو چاہو۔ قبرستان میں عام طور پر جو عورتوں نے من سنور کر جانا اور میلہ لگانا شروع کر دیا ہے اس سے ان کو نہایت سختی سے روکو اور کہو کہ وہ گھروں میں بیٹھ کر رات کو نفلیں پڑھیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اگر بے پرده ہو کر گھونسے پھرنے اور مجموعوں میں جانے ہی کا شوق ہے تو للہ اس رات کو معاف فرمائیں۔ خدا اور رسول خدا ﷺ سے بغاوت نہ کریں۔ اس کے لیے اور بہت سے دن اور راتیں ہیں۔ قبرستان کو معصیت کا اکھاڑا نہ بنائیں اور وہاں کے آرام کرنے والوں کو جین لینے دیں اور یاد رکھیں۔

چرخی کی طرح چرخ ہی میں بس رہے گا وہ
جس نے خلاف شرع منائی شب برات

سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على
المرسلين والحمد لله رب العالمين

نظم

خدا کی حمد میں مسروف کائنات ہے آج
پڑھو درود و نوافل شب برات ہے آج
محبو آؤ اگر خواہش نجات ہے آج
کہ نعمت پاک حبیب خدا کی رات ہے آج
وہ ہوں گے نار سے بے خوف کل قیامت میں
کہ جن کو محفل مولد سے القات ہے آج
دہن سے اس کے دم ذکر پھول جھرتے ہیں
جو کوئی واصف محبوب خوش صفات ہے آج
ہوابیاں نہ الیں کیسے منہ پہ انداء کے
وہ جل رہے ہیں کہ ذکر نبی کی رات ہے آج
وہ عقدے ہو گئے حل وانہ ہوتے تھے جو کبھی
مرادیں ہوتی ہیں پوری شب برات ہے آج
نبی مزاروں پہ جا کر دعائیں کرتے تھے
نفیس مردوں کے جاگ اٹھتے تھے وہ رات ہے آج
شریک ہرم نبی ہوں گے پھر جو زندہ رہے
وگرنہ آخری یادو شب برات ہے آج
بھروسہ کچھ نہیں دنیا کی زندگانی کا
قضا بھی آئے گی کل اس کو جو حیات ہے آج
خدا کا حکم قیامت میں اے عمر ہو گا
مرے نبی کے ثان خوانوں کی نجات ہے آج

نماز مومن کی معراج ہے

حضور اکرم ﷺ کا رشادگر ای ہے :-

"قیامت کے دن ہر مسلمان سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اگر نماز صحیح رہی تو اس کے سارے عمل صحیح رہیں گے اور اگر نماز خراب رہی تو اس کے سارے عمل خراب رہیں گے۔ (دیکھئے طبرانی)

معلوم ہوا قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہو گا اور نماز کا حساب اللہ کی باتا میں دینا ہو گا لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنی اولادوں کو بالغ ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کا پابند بنائیں اور جن لوگوں کی نماز میں قضاۓ ہو چکی ہیں وہ ان کی ادائیگی جیتے جی کر لیں تاکہ کوئی نماز ذمہ نہ رہے۔

قضاۓ عمری ادا کرنے کا طریقہ :-

جس چیز کا بندوں پر اللہ کا حکم ہے اس کو وقت پر کر لینے کو "او" کہتے ہیں اور وقت گزرنے کے بعد کرنے کو "قضاۓ" کہتے ہیں۔

قضاۓ نماز میں نوافل اور غیر مؤکدہ سنتوں سے اہم ہیں یعنی جس وقت و قسم نماز ادا کرنا ہوا نہیں چھوڑ کر ان کے بدالے عمر قضاۓ نماز میں پڑھنے تاکہ بری الذمہ ہو سکے۔ البتہ تراویح اور بارہ رکعت سنت مؤکدہ نہ چھوڑے۔ (رد المحتار)

بادہ رکعت سنت مؤکدہ یہ ہیں۔ 2 رکعت سنت فجر، 4 رکعت سنت قبل فرض ظهر اور 2 رکعت سنت بعد فرض ظهر، 2 رکعت سنت بعد فرض مغرب، 2 رکعت سنت بعد نماز عشاء اور نماز جمعہ میں 4 رکعت سنت قبل نماز جمعہ 4 رکعت سنت بعد نماز جمعہ۔

عام طور پر یہ مشہور ہے کہ رمضان میں جمعۃ الواداع کے موقع پر چار نوافل یا

شب بُرأت، شب قدر اور شب معراج کی راتوں میں دور رکعت یا چار رکعت نوافل ادا کر لینے سے تمام عمر کی قضاۓ نماز میں ادا ہو جاتی ہیں ایسا سوچنا غلط ہے فرض نمازوں کی قضاء فرض ہے نوافل اس کا قائم مقام ہرگز نہیں۔

علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی بھی موقع ملے اپنی قضاء نماز میں ادا کرتے رہو۔ فرض کی قضاء فرض ہے اور وتر کی نماز پوچکہ واجب ہے اس لئے اس کی قضاء بھی واجب ہے۔ سنتوں اور نفلوں کی قضاء واجب نہیں۔ قضاء نمازوں کی ادائیگی کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں۔ عمر میں جب پڑھے گابری الذمہ ہو جائے گا مگر تین اوقات طوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ (عالیگیری)

پانچوں فرضوں میں باہم اور فرض و وتر میں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر وتر پڑھے۔ اگر کسی کی ایک سال یا اس سے زیادہ سال کی نماز میں قضاء ہو گئیں ہیں تو قضاء پڑھنے والا ان قضاء نمازوں میں سے جو چاہے پہلے پڑھ سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ چاہے تو پہلے سال بھر کی فجر کی ادا کرے پھر ظہر کی پھر عصر کی پھر مغرب کی اور پھر عشاء کی سال بھر کی ادا کرے۔ مگر وقتي نمازوں کی ترتیب میں ایسا نہیں کر سکتے۔ قضاء نمازوں کی ادائیگی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے ترتیب سے پڑھتا چلا جائے۔ مثلاً فجر کے دو فرض، ظہر کے چار فرض، عصر کے چار فرض، مغرب کے تین فرض، عشاء کے چار فرض اور تین وتر یا قضاء نمازوں کو آپ اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں کہ پہلے فجر کی تمام نمازوں، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی اور پھر عشاء کی تمام نمازوں ادا کر لیں۔

نیت اس طرح کرے پہلی فجر کی نماز جو مجھ سے زندگی میں قضاء ہوئی ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح ہر قضاء نماز کی نیت کرتا چلا جائے۔ اس طرح وہ ادا ہوتی جائیں گی اور اس کے بعد والی پہلی ہو جائیں گی۔

جو مردوں عورت قضاء عمری نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے

اپنی عمر کا تعین کرے اور بالغ ہونے کے وقت کا حساب لگائے۔ کیونکہ نماز بالغ ہونے پر فرض ہو جاتی ہے۔ اگر بالغ ہونے کا وقت کا ندازہ نہیں تو مرد بادہ سال سے پندرہ سال کی عمر اور عورت نو سال سے بادہ سال کی عمر کا تعین کرے۔ اس عمر سے موجودہ عمر تک کی بچھلی نمازوں کو فوراً ادا کرے۔ جس پر بہت زیادہ نمازیں قضاء ہوں ان کے لئے رعایت بھی ہے کہ وہ ہر بجہہ اور رکوع میں تین تسبیح کی جگہ ایک تسبیح ادا کرے۔ یعنی سبحان ربی العظیم ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ ایک بار کرے۔ تیری اور چوتھی رکعتوں میں الحمد شریف کہ جگہ تین بار سبحان اللہ کہہ کر رکوع کر لیں مگر وتر کی تیری رکعت میں ایسا نہیں کر سکتے۔ وتر کی رکعت میں آیت اور سورت پڑھنے کے بعد دعا نے قوت کی جگہ تین بار رب غفرانی کہے۔ قعدہ اخیر میں التحیات کے بعد درود ابراہیم کی جگہ اللهم صل علی محمد واله وسلم کہہ کر سلام پھیر لیں۔ (دیکھئے احکام شریعت)

جیسا کہ شروع میں بیان کیا جا چکا ہے کہ قضاء صرف فرائض اور واجبات کی کرنی ہوگی۔ لہذا ایک دن کے فرائض و واجبات ادا کرنے کے لئے 20 رکعتیں درکار ہوں گی یعنی فجر کے 2 فرض، ظهر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر۔ اس طرح ایک دن کی کل 20 رکعتیں ہوں گی۔ 20 رکعتیں (رعایتوں کے ساتھ) ادا کرنے میں عام طور پر پندرہ منٹ درکار ہیں۔ اس طرح سانچھے منٹ یعنی ایک گھنٹے میں 80 نمازیں یعنی چار دن کی نمازیں ادا کی جاسکتی ہیں چنانچہ قضاء عمری ادا کرنے والا شخص روزانہ کم از کم ایک گھنٹہ صرف کرنے کا عزم مصمم کرے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد اس بارگراں سے بکدوش اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ لہذا جو خواتین و حضرات قضاۓ عمری ادا کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہئے کہ نمازوں کی رکعتوں کے جائے گھنٹوں کا حساب لگائے۔ اس طرح زہنی طور پر اس کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ مثلاً اگر کسی صاحب کی دس

سال کی قضاۓ باقی ہے تو وہ اس طرح حساب لگائے۔

ایک دن کی 20 نمازیں ادا کرنے کے لئے وقت درکار ہے = 15 منٹ

چار دن کی 80 نمازیں ادا کرنے کے لئے وقت درکار ہے = 60 منٹ یعنی 1 گھنٹہ

30 دن یعنی ایک ماہ کی 600 نمازیں ادا کرنے کے لئے وقت درکار ہے

$30 \times 15 = 450$ منٹ یعنی 7.5 گھنٹہ

360 دن یعنی ایک سال کی 7200 نمازیں ادا کرنے کے لئے وقت درکار ہے

$15 \times 360 = 5400$ منٹ یعنی 90 گھنٹہ

یعنی ایک سال کی قضاۓ نماز ادا کرنے کے لئے 90 گھنٹہ درکار ہو گئے اس طرح ہر مرد و عورت پاندہ ی کے ساتھ 90 گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ تکال کر عمر قضاۓ نماز ادا کر کے پورے کر لیں اس طرح تین ماہ میں ایک سال کی اور 30 ماہ یعنی ڈھائی سال میں 10 سال کی اور 5 سال میں 20 سال کی قضاۓ نمازیں بآسانی ادا کی جاسکتی ہیں۔ اگر قضاۓ نماز ادا کرنے والا روز کے دو گھنٹے تکالنے کا عزم مصمم کرے تو ڈھائی ماہ میں ایک سال کی اور سوا سال میں 10 سال کی اور ڈھائی سال میں 20 سال کی نماز ادا کر سکتا ہے۔

بے نمازی مرنے والوں کے لئے ایک اہم مسئلہ :-

وہ مسلمان جن کی نمازیں دنیا میں قضاۓ ہوئیں اور انہیں ادا کئے بغیر مر گئے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے لاواحقین کو مرتبے وقت فدیہ دینے کی وصیت کر جائیں۔ ایسی وصیت کرنا واجب ہے۔

درختدار میں ہے:

اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کئی فوت شدہ نمازیں ہیں۔ تو وہ ان کے کفارہ کی وصیت کرے اور ہر نماز کے لئے نصف صاع یعنی دو کلو یا پاس گرام گندم دے۔ اسی طرح وتر اور ہر

روزے کا کفارہ ہے۔ یہ کفارہ اس کے تمامی مال سے دیا جائے گا۔

(دیکھئے در مختصر جلد اول صفحہ 492)

معلوم ہوا ہر فرض نمازوں اور وتر کے عوض نصف صاع گیسوں یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت فدیے میں ادا کی جائے۔

عام طور پر مسلمان مرد پر بارہ سال کے درمیان اور عورت پر نو سال سے بارہ سال کے درمیان نماز فرض ہو جاتی ہے۔ چنانچہ لوحیثین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مرنے والے رشتہ دار (مرد یا عورت) کی قضاء شدہ نمازوں کا حساب لگائے۔ مثلاً کسی مرحوم شخص نے چالیس سال میں نماز کا آغاز کیا تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس پر بنا باغی کے بارہ سال تک الگ 28 سال کی قضاء واجب ہے۔ لہذا 28 سال کافدیہ ادا کرنا ہو گا۔

اسی طرح کوئی عورت پچیس سال میں انتقال کرتی ہے اور اس نے زندگی پھر نمازوں کی تو بنا باغی کے نو سال تک الگ کر سولہ سال کی نمازوں کا فدیہ ادا کریں۔

فدیہ ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے فوت شدہ رشتہ دار کی نمازوں کا حساب لگائے۔ مثلاً کسی کی یہ سال کی نمازوں فوت ہوئیں اب اس کافدیہ اس طرح ادا ہو گا۔

ایک نماز کافدیہ دو کلو پچاس گرام گند میا اس کے بر امیر رقم۔

دو کلو پچاس گرام آٹا کی قیمت جو آپ کھاتے ہیں = 20 روپے۔

تو ایک نماز کافدیہ = 20 روپے ہو گا۔

پانچ فرض اور ایک وتر یعنی چھ نمازوں کافدیہ $20 \times 6 = 120$ روپے

یعنی ایک دن کی چھ نمازوں کافدیہ = 120 روپے۔

30 دن کی 180 نمازوں کافدیہ: $20 \times 180 = 3600$ روپے

یعنی ایک ماہ کافدیہ: 3600 روپے

12 ماہ کی 2160 نمازوں کافدیہ: $20 \times 2160 = 43200$ روپے

یعنی ایک سال کی نمازوں کافدیہ = 43200 روپے

20 سال کی نمازوں کافدیہ: $20 \times 43200 = 864000$ روپے

پس 20 سال کی نمازوں کافدیہ آئندہ لاکھ چونٹھ بزار روپے ادا کرنا ہو گا۔ اگر کوئی مرنے والا حالت زندگی میں اپنی نماز کافدیہ دے تو یہ جائز ہرگز نہیں ہو گا کیونکہ کمزوری، ضعیفی، یا مصاری کی حالت میں نمازوں پر حصہ کا حکم ہے خواہ اشارہ سے نمازوں پر ہنی پڑے۔ (دیکھئے ارکان اسلام)

فدیہ دینے کا آسان طریقہ:-

عام طور پر مسلمان خیرات اور صدقات نکالتے رہتے ہیں اور دینی اور سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ لہذا وہ خواتین و حضرات جو اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کی قضاء نمازوں کافدیہ دینا چاہتے ہیں تو انہیں چاہئے کہ صدقات خیرات کرنے کے جائے وہ اپنے مرحومین کی قضاء نمازوں کے فدیہ میں صدقہ کریں یہاں تک کہ وہ بری الذمہ ہو جائیں۔ یاد رہے کہ صدقات و خیرات ایک مستحب عمل ہے جبکہ اپنے مرحومین کی قضاء نمازوں کافدیہ وارثین کے لئے زیادہ اہم ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ فدیہ کی رقم کوہا کی رقم میں سے ہرگز نہ دی جائے۔ فدیہ کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے بھی ادا کی جاسکتی ہے۔ جیتے جی کوئی شخص اپنی قضاء نمازوں کافدیہ نہیں دے سکتا۔ فدیہ کی رقم اسی ایسے صحیح العقیدہ سن مسلمان کو دیں جو شرعاً فقیر یعنی صاحب نسب نہ ہو۔

مسلمانو! اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اور نماز جیسی عبادت سے غفلت بر تا تودین و دنیا کے نقصان کا موجب اور قرآنی کو دعوت دینا ہے۔

جمعیت اشاعت الہست پاکستان کی سرگرمیاں

ہفت واری اجتماع :-

جمعیت اشاعت الہست پاکستان کے زیر انتظام ہر چھوپر کو بعد نماز عشاء تقریباً ابھر رات کو نور مسجد کا غندی بازار کراچی میں ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس سے متعدد و مختلف علمائے الہست مختلف موضوعات پر خطاب فرماتے ہیں۔

مفت سلسلہ اشاعت :-

جمعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقدار علمائے الہست کی کتابیں مفت شائع کر کے تقسیم کی جاتی ہیں۔ خواہش مند حضرات نور مسجد سے رابطہ کریں۔

مدارس حفظ و ناظرہ :-

جمعیت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

درس نظامی :-

جمعیت اشاعت الہست پاکستان کے تحت رات کے اوقات میں درس نظامی کی کالائیں بھی لگائی جاتی ہیں جس میں ابتدائی پانچ درجوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔

کتب و کیسٹ لا بہریی :-

جمعیت کے تحت ایک لا بہریی بھی قائم ہے جس میں مختلف علمائے الہست کی کتابیں مطالعہ کے لیے اور کیمیئن سماعت کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ خواہش مند حضرات رابطہ فرمائیں۔